



CADET COLLEGE FATEH JANG

ENTRY TEST SAMPLE PAPER

CLASS 6th

PAPER ENGLISH

TIME: 40 Minutes

MARKS: 50

Q-1 Write a paragraph of at least 10 lines on any one of the following topics. (10)

- (i) My Country (ii) My Family (iii) Football

Q-2 Use the following words in your own sentences. (05)

- (i) Forest (ii) Light (iii) Pollution
(iv) Honesty (v) Manners

Q-3 Solve the following. (10)

(A) Write 2 nd & 3 rd forms of the verbs. (05)		(B) Give Degrees of adjectives. (05)	
(i)	Join	(i)	Short
(ii)	Divide	(ii)	Good
(iii)	See	(iii)	Small
(iv)	Watch	(iv)	Bright
(v)	Go	(v)	Slow

Q-4 Answer the following questions (10)

- (i) How many provinces are there in Pakistan?
(ii) What does your father do?
(iii) Where do you come from?
(iv) Write the names of five cities of Pakistan.
(v) Write the names of five parts of body.

Q-4 (A) Fill in the blanks with suitable words given in brackets. (05)

- (i) Saleem _____ a letter. (write, writes)
(ii) Ali and Alia _____ fruit. (eat, eats)
(iii) We _____ friends. (are, is)
(iv) Umer _____ a newspaper daily. (read, reads)
(v) We _____ to school yesterday. (gone, went)

(B) Translate the following sentences into English. (05)

- (1) سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں۔ (2) اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ (3) سال میں چار موسم ہوتے ہیں۔
(4) ہم بیچ جیت چکے ہیں۔ (5) کیا وہ سکول جا رہا ہے؟

Q-5 Write a letter to your mother to thank her for birthday gift. (05)

(OR)

Write an application for sick leave.



CADET COLLEGE FATEH JANG

ENTRY TEST SAMPLE PAPER

CLASS 6th

PAPER MATHS

TIME 40 minutes

MARKS: 50

Q-1 (a) **Fill in the blanks.** 05

- i. Area of rectangle _____
- ii. A triangle which have one right angle is _____
- iii. Circumference of a circle _____
- iv. Relation of equality between two ratio is called _____
- v. What comes next 2, 6, 10, _____

(b) **Multiple choice questions:** 05

- i. $-24 + 28 =$ _____
(a) -2 (b) 4 (c) -7 (d) 9
- ii. Average of 20, 30, 40, 50, 60 is _____
(a) 30 (b) 35 (c) 40 (d) 45
- iii. In a circle sum of angles _____
(a) 270° (b) 360° (c) 180° (d) 10°
- iv. Area of parallelogram _____
(a) length x height (b) length x depth (c) length x width (d) None
- v. 1 ft = _____
(a) 12 inch (b) 10 inch (c) 8 inch (d) 9 inch

Q-2 (a) **Find L.C.M of 35, 40, 45, 50** 05

(b) **Simplify** $6^4 \div 6^5$ 05

Q-3 (a) **Add** $9\frac{1}{4} + 2\frac{5}{4}$. 05

(b) **Simplify** $4(2 - 6)$ 05

Q-4 **Find the Area of a triangle, if its base is 15 cm and length is 20 cm.** 10

Q-5 **Draw a triangle $\triangle ABC$ in which** 10

$$\overline{mAB} = 6\text{cm}, \quad \overline{mBC} = 4\text{cm}, \quad m\angle B = 60^{\circ}$$

کیڈٹ کالج فتح جنگ
داخلہ ٹیسٹ سیمپل پیپرز
پیپر ریاضی کلاس ششم

وقت: 40 منٹ

کل نمبر: 50

سوال نمبر: 1 (الف) خالی جگہ پر کریں۔

05

- (i) مستطیل کا رقبہ = _____
- (ii) ایک مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ ہو تو اسے _____ کہتے ہیں۔
- (iii) دائرے کا محیط = _____
- (iv) دو نسبت کے درمیان برابری کا تعلق _____ ہے۔
- (v) آگے کیا آئے گا۔ 10, 6, 2 _____

05

(ب) کثیرالانتخابی سوالات۔

- (i) _____ = -24 + 28
- (الف) -2 (ب) 4 (ج) -7 (د) 9
- (ii) _____ ہے 60, 50, 40, 30, 20 کا اوسط
- (الف) 30 (ب) 35 (ج) 40 (د) 45
- (iii) ایک دائرہ کے زاویوں کا مجموعہ = _____
- (الف) 270° (ب) 360° (ج) 180° (د) 10°
- (iv) متوازی الاضلاع کا رقبہ = _____
- (الف) لمبائی × چوڑائی (ب) لمبائی × گہرائی (ج) لمبائی × چوڑائی (د) کوئی نہیں۔
- (v) 1 فٹ = _____
- (الف) 12 انچ (ب) 10 انچ (ج) 8 انچ (د) 9 انچ

سوال نمبر: 2 (الف) ذواضعاف اقل معلوم کریں۔ 50, 45, 40, 35

05

(ب) مختصر کریں۔ $6 \div 6$

05

سوال نمبر: 3 (الف) جمع کریں۔ $9 - 1/4 + 2 - 5/4$

05

(ب) مختصر کریں۔ $4(2 - 6)$

05

سوال نمبر: 4 ایک مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔ جس کا قاعدہ 15 سینٹی میٹر اور عمود 20 سینٹی میٹر ہو۔

10

سوال نمبر: 5 مثلث ABC بنائیں۔ جس میں $m\angle B = 60^\circ$ ، $m\angle C = 40^\circ$ ، $m\angle A = 60^\circ$

10